



SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN (SECP)

PRESS RELEASE

For immediate release

May 14, 2026

SECP Makes Mutual Fund Investment Easier for Small Investors

ISLAMABAD, May 14: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has made investment in mutual funds easier for small investors by simplifying digital account opening and increasing investment limits for low-risk mutual fund accounts. The reforms are aimed at encouraging broader retail participation and aligning mutual fund investment practices with Pakistan's evolving digital financial services landscape.

The SECP has issued a circular under which the investment limit for Sehl Accounts has been increased to PKR 1 million from the earlier limit of PKR 200,000, while Sahulat Accounts can now facilitate investments up to PKR 3 million, compared to the previous limit of PKR 1 Million.

Under the new framework, investors maintaining accounts with regulated financial institutions, including banks, microfinance banks, and electronic money institutions, will no longer be required to undergo separate KYC verification for opening Sehl and Sahulat Accounts with Asset Management Companies (AMCs). Since these customers have already been verified by their respective financial institutions, the requirement for repeated verification and resubmission of KYC documents has been removed.

SECP has also streamlined additional due diligence requirements for online account opening in light of improved biometric verification and liveness check systems, while maintaining the integrity and robustness of the verification process. The integration is expected to reduce duplication, enhance operational efficiency, and facilitate quicker opening of investment accounts with AMCs.

In addition, the previous annual investment caps have been removed, allowing investors greater flexibility to invest and redeem funds without restrictive yearly limits.

The reforms are part of SECP's broader efforts to make investment in Pakistan's capital markets simpler and more accessible for the public. SECP Chairman Dr. Kabir Ahmed Sidhu has set a target to increase the number of investors in Pakistan's capital market to 2.5 million.

The SECP is focusing on simplifying investment procedures, improving digital access, and strengthening enforcement mechanisms to ensure transparency and fair play in the markets.



SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN (SECP)

PRESS RELEASE
For immediate release
May 14, 2026

ایس ای سی پی نے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری آسان بنادی

اسلام آباد، 14 مئی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کو مزید آسان بناتے ہوئے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کو آسان بنادیا ہے۔

اس کے علاوہ کم رسک والے میوچل فنڈ اکاؤنٹس کی سرمایہ کاری کی حد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے سہل اکاؤنٹس کی سرمایہ کاری حد 2 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، جبکہ سہولت اکاؤنٹس کے ذریعے سرمایہ کاری کی حد 10 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ ایس ای سی پی کی جانب سے ریگولیٹری فریم ورک میں ترمیم کا سرکلر جاری کر دیا گیا ہے۔

ملک میں جدید بائیو میٹرک تصدیق اور لائوسنس چیک سسٹمز کی دستیابی کے بعد آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تصدیقی عمل کے طریق کار کو بھی آسان بنادیا گیا ہے۔

نئے فریم ورک کے تحت ایسے سرمایہ کار جو کہ پہلے سے بینکوں، مائیکرو فنانس بینکوں اور الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز سمیت ریگولیٹڈ مالیاتی اداروں میں اکاؤنٹس رکھتے ہیں، انہیں اب ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں میں سہل اور سہولت اکاؤنٹس کھولنے کے لیے کے وائی سی کے تصدیقی عمل سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا۔ چونکہ ان صارفین کی تصدیق پہلے ہی متعلقہ مالیاتی ادارے کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے دوبارہ تصدیق اور کے وائی سی کے دستاویزات جمع کرانے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔

اس کے علاوہ، چھوٹے اکاؤنٹ کے ذریعے سالانہ سرمایہ کاری کی سابقہ حد بھی ختم کر دی گئی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کرنے اور اکاؤنٹ سے واپس رقوم نکالنے میں زیادہ سہولت حاصل ہوگی۔

یہ اصلاحات پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو عام عوام کے لیے آسان اور قابل رسائی بنانے کے لیے ایس ای سی پی کی وسیع تر اصلاحات کا حصہ ہیں۔ ایس ای سی پی کے چیئر مین ڈاکٹر کبیر سدھو نے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد 25 لاکھ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

ان اقدامات کا مقصد یہ ریگولیٹڈ مالیاتی سیکٹر میں سرمایہ کاری کو آسان بنانا ہے تاکہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں شامل ہو کر پاکستان کی معاشی ترقی کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔